

سٹی آف برامپٹن کے تمام فنکاروں کو 'شیر یور سٹوری' میں شمولیت دعوت دی جا رہی ہے

برامپٹن، آن (4 جون 2021) – سٹی آف برامپٹن کی نئی تخلیق کردہ آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی (ACCIDA) فنکاروں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اپنی داستانیں شیئر کریں اور ایک ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر اپنے فن کو فروغ دیں، جو شہر کے لیے درحقیقت ایک لویئر (محبت نامے) کی مانند ہو گا۔

پوسٹ کارڈ پروجیکٹ - شیر یور آرٹسٹ سٹوری (The Postcard Project - Share Your Artist Story) اب برامپٹن کے فنکاروں، تخلیق کاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کی جانب سے اپنے کام کو ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر ظاہر کرنے کے لیے اپنے پرانے یا نئے ڈیجیٹل اور بصری فن پاروں کو فروغ دینے کے لیے 20 اندراج قبول کر رہا ہے۔ برامپٹن سے باہر کے ایسے فنکاروں کو بھی زیر غور لایا جائے گا جن کے کام میں برامپٹن کا اثر رسوخ نمایاں ہو اور ہمارے شہر کے ساتھ ان کا کسی طریقے سے کوئی تعلق بنتا ہو جبکہ برامپٹن کے اندر رہنے والے فنکاروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس موقع کے لیے منتخب شدہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں \$250 کی ایک یکمشت ادائیگی بھی کی جائے گی۔

پوسٹ کارڈ پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر - آپ کی فنکارانہ داستان، ACCIDA اپنے کام کے فنکارانہ کریڈٹ کے ساتھ ACCIDA کے پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر اور آئندہ کے لیے پرموشنل اور مارکیٹنگ کے مقاصد کے طور پر شیئر کرے گی۔ فنکار ایک سے زیادہ مصوری کے نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے مگر اس کا اصل مقصد ان 20 ایوارڈز کو فنکاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔

فنکاروں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شہر کے ساتھ اپنے رابطوں کی کھوج لگائیں اور اس بات کی عکاسی کریں کہ ان کا فن برامپٹن کی ثقافت کی حقیقی روح اور داستانوں پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ فن پارے نئے یا پرانے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی میڈیم پر موجود ہو سکتے ہیں، جیسے: فوٹو گرافی، تحریری کام، کارکردگی کی دستاویزات، ڈیجیٹل کولیج اور نان ڈیجیٹل فن پارے، بشمول ہاتھ سے تیار کردہ ایسے کام اور پینٹنگز جن کو تصریحات کے مطابق ڈیجیٹائز کیا جا سکتا ہو۔ اقتباسات اور کسی حقیقی چیز کی عکاسی نہ کرنے والے کاموں کا بھی خیر مقدم اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اندراج جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 جون 2021 جون ہے۔ تمام اندارجوں کا جائزہ ACCIDA لے گی۔ اضافی معلومات اور سوالات کے لیے، براہ کرم پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات [یہاں](http://www.brampton.ca/your-artist-story) پر دیکھیں اور تمام اندراج accida@brampton.ca پر ای میل کیے جا سکتے ہیں، جن کی موضوع کی سطر میں درج ذیل تحریر ہونی چاہیے: Your Artist Story

اقتباسات

"پوسٹکارڈ پروجیکٹ: شیر یور سٹوری سٹی کے 2040 کے ویژن کی تائید کرتی ہے جس کے تحت موجودہ ثقافتی ماحول کو دلکش فن پاروں کے مناظر میں تبدیل کیا جا سکے اور اس میں تمام فنکاروں، تخلیق کاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے لیے اپنے فن کو جلا بخشنے کے بھرپور مواقع موجود ہوں۔ میں سٹی آف برامپٹن کے تمام فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی داستانیں سنائیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"چونکہ ہم اپنے مقامی فنکاروں اور ثقافتی کمیونٹی کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دے رہے ہیں، لہذا یہ وقت سٹی آف برامپٹن کے لیے انتہائی پرجوش ہے۔ مقامی فنکاروں کی جانب سے اپنی داستانیں شیئر کرنے سے ایجنسی کو ان کے ساتھ اپنے اہم تعلقات استوار کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے علاوہ برامپٹن کے فنکاروں کے کام کو بھی فروغ ملے گا۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"فنکاروں کو مدعو کرنے سے ہماری نئی تخلیق شدہ آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی کو قوی ہونے میں مدد ملے گی جس کا مقصد برامپٹن میں ایک مضبوط، تخلیقی اور کاروباری کمیونٹی کو تقویت بخشنا ہے تاکہ عالمی وبائی بیماری کے بعد مقامی معیشت کی بحالی میں خاطر خواہ مدد مل سکے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca